

الحق کے مضامین اور قارئین کے دلچسپی

● الحق باقاعدگی سے مل رہا ہے اور سب سے پہلے اسے پڑھتا ہوں اور اس سے فراغت پا کر پھر کہیں دوسرے رسائل پڑھ لیتا ہوں۔ الحق کا معیار صحافت بلند کر دیا گیا ہے۔ اللہ عزوجل فرزند الحق کی ترتیب مضامین بزرگان دین کی علمی آراء سے مزین ہے۔ اس دفعہ خواست کی فتح کے بعد پانچ افراد کا دورہ اور پھر مولانا جمال الدین حقانی صاحب کے سوال و جواب کو بہتر سے بہتر طریقہ پر ترتیب دیا گیا ہے۔ فوجی اعتباراً سے خواست کی اہمیت اور مجاہدین کی کامیابی پر دل خوشی سے نہیں سنبھلتا، گویا تمام قارئین الحق یہ سمجھتے ہونگے کہ اس مفتوحہ علاقہ کا دورہ ہم بھی کرتے، ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ خداوند کریم افغانستان کو مجاہدین کے قبضہ میں جلد از جلد لائے تاکہ روسی استعمار کا خاتمہ اس مقدس سرزمین سے ہو جائے اور ہم اپنی زندگی میں اس تاریخی کامیابی کو دیکھ لیں۔ آمین

مولانا علی میاں صاحب مدظلہ کا عالم اسلام پر قائم اور اس کی گرتی ہوئی ساکھ درد انگیز ہے اور ہر حساس مسلمان کے دل میں اس کا دکھ اور درد ہے۔ یہ درحقیقت حنوز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کا ایک حصہ ہے لایستی من الاسلام الا اسماہ ومن القرآن الا رسمہ۔ مسلمانوں میں جو ہر ایمان ختم ہونے کے بعد نام کے مسلمان رہ گئے ہیں تو اب چاروں طرف ظلم و جور کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔

(مولانا) سعد الدین، مردان

● الحق کے گذشتہ شمارہ میں ممتنعہ کے بارے میں آپ کا ترتیب دیا ہوا مضمون پڑھا، بہت معلوماتی مضمون ہے۔ اسی طرح کا ایک اور معلوماتی مضمون "شرعی باندیوں" کے بارے میں بھی لکھیں۔ ادارہ خاص طور پر پڑھتا ہوں۔ انداز بیان اور طرز تحریر بہت پیارا ہے۔ اللہ کرے روز قلم اور زیادہ۔ (اصغر حسن، نوشہرہ)

● فتح خواست کے چشم دید مناظر مولانا عبد القیوم حقانی کی تحریر میں پڑھے، خدا کرے کہ واقعہ بھی یہ مرحلہ جہاد افغانستان کیلئے بدر کی طرح اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا پیش خیمہ ہو۔ میری طرف سے آپ کو، آپ کے دارالعلوم کو اور تمام حقانی برادری کو ہدیہ تبریک پیش خدمت ہے کہ اس میں آپ کا بنیادی حصہ ہے۔ واقعہ دارالعلوم حقانیہ پاکستان کا "دارالعلوم دیوبند" ثابت ہو رہا ہے۔ جس طرح دیوبند کے جیالوں نے انگریزی سامراج کے خلاف جہاد کیا دارالعلوم حقانیہ کے روحانی فرزندوں نے روسی سامراج اور سوشلسٹ استعمار کے خلاف ایسا بند باندھا اور اتنا کام کیا کہ صدیوں مسلمان اس پر فخر کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ الحق میں حسب معمول خصوصیت کے ساتھ جہاد افغانستان پر لکھا جاتا رہے گا۔

والسلام: محمد صفی اللہ فتح پوری